

NSW ریفيوجی ہیلتھ پلان 2022-2027

پلان کا مختصر جائزہ



تصوّر:

ریفيوجی پس منظر رکھنے والے لوگ نیو ساؤتھ ویلز کے صحت مند اور پھلتے پھولتے ہوئے لوگ ہیں

NSW Health اس پلان کو مقامی پلانز کی رہنمائی، تشکیل اور آگہی کے لیے استعمال کرے گی تاکہ یہ یقینی ہو:

- ریفيوجی (پناہ گزین) اور اسائلم سیکر (پناہ کے درخواست گزار) پس منظر رکھنے والے لوگ اپنی صحت کی نگہداشت میں خود مرکزی اہمیت رکھتے ہیں اور NSW Health مریضوں اور کمیونٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے
- NSW Health صحت کی نئی اور ابھرتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے لچکدار انداز میں کام کرتی ہے جس میں سرکاری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک کار سے کام کرنا بھی شامل ہے
- NSW Health ریفيوجی پس منظر رکھنے والوں کو صحت کے معاملات میں پیش قدم مساوات پر اقدام کرنے اور اس میں کمی کرنے کی کوشش کرتی ہے
- NSW Health صحت کی نگہداشت کے لیے جامع طریق کار اپناتی ہے اور لوگوں کے زندگی کے تجربے اور خاندانی حالات، تہذیبی پس منظر اور روحانی عقائد کو تسلیم کرتی ہے، نہ کہ صرف ان کے حالیہ طبی مسائل کو مدنظر رکھتی ہے

| :NSW Health | مقاصد |
|--|--|
| <p>نگہداشتِ صحت کے مرکزی اداروں کو اس طرح بدلے گی اور بامقصد بنائے گی کہ ان کا مؤثر، شواہد کی بنیاد پر اور خاص طور پر ترتیب دی گئی ایسی خدمات فراہم کرنا یقینی ہو جائے جو لوگوں کی تہذیبی ضروریات کے مطابق ہوں اور صدمات کے پیچیدہ اثرات کو سمجھتی ہوں</p> <p>ریفیوجی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والی اور ان کی نگہداشتِ صحت کی ضروریات پوری کرنے والی بامقصد اور خصوصی خدماتِ صحت فراہم کرے گی</p> <p>تہذیبی ضروریات پوری کرنے والے اور مضبوط عملے کو بھرتی کر کے تربیت دے گی جو ایسے نتائج فراہم کرے گا جو ریفیوجی پس منظروں کے لیے اہم ترین ہوں</p> | <p>لوگوں کو تہذیبی لحاظ سے مناسب اور صدمات کا احساس کرنے والی خدماتِ صحت بروقت ملیں گی</p> |
| <p>لوگوں کو نظام صحت کو سمجھنے اور اس میں اپنا راستہ تلاش کرنے اور خود اپنی نگہداشتِ صحت میں فعال شریک بننے کے لیے مدد دے گی۔ اس میں مریضوں اور کمیونٹیوں کو ان کی صحت کے متعلق فیصلوں میں شریک کرنا شامل ہے</p> <p>بروقت اور مؤثر زبانی ترجمہ اور زبان کی خدمات فراہم کرے گی تاکہ صحت کے متعلق آگہی اور معلومات تک رسائی بڑھے</p> <p>خدماتِ صحت کو مل کر ڈیزائن کرنے، انہیں عمل میں لانے اور ان کی جانچ کے لیے صارفین کو شریک کار بنائے گی۔</p> | <p>لوگ خود اپنی نگہداشت میں مرکزی اہمیت رکھتے ہیں</p> |
| <p>نگہداشتِ صحت کی ضروریات بالخصوص اس پلان میں شناخت کردہ ابھرتی ہوئی ضروریات اور ترجیحات میں تبدیلیوں پر لچکدار انداز میں قدم اٹھائے گی جیسے نیو ساؤتھ ویلز کے دیہی اور ریجنل علاقوں میں لوگوں کی آبادکاری میں اضافے کے سلسلے میں</p> <p>جب اور جہاں نگہداشتِ صحت کی خدمات کی طلب ہو، لچکدار انداز میں اس پر قدم اٹھائے گی۔ اس میں بہت پیچیدہ طبی مسائل پر خاص موزوں اقدامات کرنا اور اہم خدمات کے لیے انتظار کے عرصے کم کرنا شامل ہے۔</p> <p>صحت کے سرکاری اداروں، سماجی خدمات اور امیگریشن کے ساتھ سیٹلمنٹ سروسز، NGOs (غیر سرکاری تنظیموں)، PHNs (پرائمری ہیلتھ نیٹ ورکس) اور پرائمری کیئر پرووائڈرز کے سمیت اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی تاکہ ریفیوجی پس منظر کے لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے نتائج بہتر بنائے جائیں۔</p> | <p>NSW Health لچکدار انداز میں اور اشتراک کار کے ذریعے نگہداشتِ صحت کی نئی اور ابھرتی ہوئی ضروریات پوری کرتی ہے</p> |
| <p>لوگوں کی ترجیحی زبان میں مؤثر کمیونیکیشن</p> <p>صحت کے مرکزی اداروں میں تہذیبی لحاظ سے مناسب خدمات</p> <p>ذہنی صحت اور جسمانی صحت سمیت، صحتِ عامہ کی خدمات تک ہر وقت رسائی نیز دیہی اور ریجنل علاقوں میں آباد کیے جانے والوں کے لیے صحتِ عامہ کی خدمات تک بروقت رسائی</p> <p>خدمات کے متعلق مستعدانہ رہنمائی اور نگہداشت میں ربط</p> <p>بامقصد انداز میں صحت کا فروغ اور صحت کے متعلق آگہی تاکہ لوگوں کو نظام صحت سے کامیابی سے استفادہ کرنے اور صحت کے بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے</p> | <p>ترجیحی معاملات</p> |
| <p>دیہی اور ریجنل علاقوں کے رہنے والے</p> <p>معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے والے</p> <p>ملک میں نئے آنے والے لوگ</p> <p>وہ لوگ جنہوں نے پناہ کی درخواست دی ہے اور کمیونٹی میں رہ رہے ہیں</p> <p>معمر لوگ، بالخصوص ناتواں بوڑھے لوگ</p> <p>خواتین اور وہ گھرانے جن میں صرف ایک خاتون بچوں کی پرورش کر رہی ہے</p> <p>بچے اور نوجوان، بالخصوص پہلے 2000 دنوں میں</p> <p>مرد</p> <p>مختلف جنسی رجحانات اور صنفی شناختیں رکھنے والے لوگ اور مختلف اٹریسیکس لوگ (+LGBTIQ)</p> | <p>ترجیحی گروہ</p> |